


گھٹنوں، کمر، پیٹ اور جدوں ک درد سے نجات کیسے پیئیں؟

ام طور پر بوڑھاپے میں لوگوں کو گھٹنوں، کمر، پیٹ اور جوڑوں کے درد کی شکایات ہوتی ہے۔ اکثر وہ یکن کرنے لگتے ہے کے یہ درد زندگی کے آخری لمحوں تک قیام رہیگا۔ بیرونی ممالک میں اس مرض پر خاص توجہ دی گی تحقیق کے بعد اس مرض پر خابو پانے کا مصر علاج دریافت کر لیا گیا ہے، اسی تاربا خود ہمارے مگنتروں فوت ڈاکٹر کلینک میں اس تاربا کی تحقیق اور علاج ک طریقوں کی دریافتی کے بعد اے سبط ہوچکا ہے کہ یہ مرض دیامی نہیں ہے۔ بدھیا اس مرض کا سبب نہیں ہے۔ بلکہ ذرا سی بدھتیادی اتنے، بیٹنے، اور چلنے پھرنے کی ناموزوں طریقیکر کا سبب یہ مرض امر کے ساتھ ابھر کر اتا ہے لیکن اب مگنتروں فوت ڈاکٹر کلینک نے اس مرض سے نجات پانے کا راستہ نکل لیا ہے

اسد صحت پانے والے اور تندرست لوگ جب کھڑے رہتے ہے، یا چلنے لگتے ہے تو انکے سارے جسم کا بوج، انکے تقنوں اور پنجوں پر پڑتا ہے۔ ذیل میں پیش کی گی اشکال پر گور کرے 1 سیدھا کھڑے رہنے کا فائدہ 2 کی تصویر مے زرقا سی غفلت کی وجہ زمین پر پنجوں کو سیدھا نہ رکھنے کی وجہ انمیں بفاعدگی پیدا ہوجاتی ہے



مزید نیچے دگی 3 کی اشکال دیکھیں، کے ہم اپنی بدھتیادی کی وجہ اپنی پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر لیتے ہے جب ہمارا کھڑے رہنا اور ہمارا چلنا پھرنا غیر سلی بنے ہمارے پاؤں کشش سفیل کی مرکزیت پر قیام نہیں رہے تو جوڑوں کا درد ہونے لگتا ہے اور بدھتیادی جاری رکھنے کی وجہ ہمارے پاؤں کی شکل بدل جاتی ہے، جیسا کے ذیل کی تصویروں سے ظاہر ہوتا ہے

تا ہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاؤں اور پنجوں میں جو مستقل طور پر قریبی پیدا ہوجاتی ہے، اسکا بد سبب، غلط جوتوں اور چپیلوں کا استعمال عرصے تک جب یہ بدھتیادی قیام رہتی ہے۔ پھٹے پرانے جوتوں اور چپیلوں کا استعمال اور ہمارے سیدھا نہ چلنے کی وجہ سے، جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے اور وقت کے ساتھ بدت رہتا ہے


اگر ہم ایبتیاد نہ کریں تو ہمارے پاؤںجسم کا وژن سمبھانے سے قصر ہوجاتے ہے، چلنا پھرنا مشکل ہوجاتا ہے، پھر زندگی بمعن سی لگتی ہے

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بیماری مستقل گھر کر گی ہے کیا ہم اسکا علاج کرسکتے ہے، کیوں نہیں؟


مگنتروں آپکو یقین دلے یگا کے یہ بلکل ممکن ہے، جسے آپ لا علاج بیماری سمجھتے ہے اسکا شرطیہ علاج ہو سکتا ہے آپ پچینگے کیسے؟

یلوپیٹیک علاج اور آپریشن تھوڈے دنو تک آرام پوہنچا سکتے ہے، کسسر رخام کرچ کرنے ک باوجود آپریشن اسکا مستقل علاج نہیں ہے، بلکہ کچھ مزیر اثرات ہے سارے جسم پر پڑتے ہے اور اسکے بعد علاج نہ ممکن ہوجاتا ہے

اسکے برقیلف جب آپ مگنتروں کے تیار کرد پمفت استعمال کرتے ہوتو جو دردیں آپکے جوڑوں میں پیدا ہوگی ہے۔ اور جنکی وکھا جوڑوں، کمر، پیٹ اور گھٹنوں کا درد بدھگیبا ہے وو خود با خود کم ہونے لگتا ہے




NORMAL



DEVIATED



Reduced joint space



Knock knees & Bow legs




Normal calcaneal alignment



Shift in alignment

Mr. Manakchand Jain- Knee X-ray Left

ان تصویر کو دیکھنے کے بعد ایہتیادی کی وجہ جوڑوں ک درمیان درارڈ پیدا ہواگی ہے۔ وو درد مگنتروں ک تیار کردہ پمفت کے استعمال سے کچھ ہی عرصے مے دور ہوجاتی ہے



بمارے درمیان منکچند جائیں کی ایک زندہ مصال ہے۔ 64 سال کی امر میں انہونے مگنتروںکا ترقیکر پر عمل کیا صرف ۴ ماہ ک علاج سے انکا افاقہ ہوگیا، اب وونہ صرف سبھا کی چیلکدمی کرنے لگے بلکہ جب وو بہار نکلتے ہے تو بدی اسسانی سے کسی بھی عمارت کی سیدھیاں چٹتے ہے، انھ جوڑوں کا درد کبھی نہیں ستاتا

مگنتروں کا طریقیکر سستا اور آسان ہے۔ ایک بار آپ +919849542662 ، 919908052921 سے ریٹ پیدا کیجئے تو مکمل تفصیلات سے آپ آگ ہو جائینگے، یقین انے پر آپ اس علاج کو ازمینگے پھر نہ کہنا ک ہمیں قبر نہ تھی

آپ رشمی سطح سے اس پتے پر ربط قیام کرسکتے ہے

D.No: 7-1-48/2/3, Raja Shyam Karan Road, Lane Adjacent to Sister Nilvedita play school, Ameerpet, Hyderabad-16, AP.

Email: footdoctorclinic@ymail.com, magnetron@ymail.com

Web: www.magnet-ron.com/therapy